

## ۲۔ مہارت پر منی سرگرمیاں

### ۱۴۔ جمناسٹک



چکردار (گول گھوم کر) اُچھلانا

### ۱۵۔ تھلیٹکس



ہائی جمپ (اونجا اُچھلانا)

یاد رکھیں:

اپنی صلاحیتوں اور استطاعت کو پہچان کرو پر دی ہوئی مہارتوں سے متعلق رہنمائی حاصل کر کے ان کی مشق کریں۔ ان میں سے ہر مہارت کی سائنسی معلومات حاصل کریں۔ بے صبری اور عجلت سے کام نہ لیں۔ ہائی جمپ (بلند اُچھال) کے بارے میں صرف معلومات حاصل کرنا متوقع ہے۔ (کم اوچائی سے اُچھلنے کی مشق کی جائے)

♦ اپر دی ہوئی سرگرمیاں انجام دینے سے پہلے وارم آپ کروالیں۔ قلا بازی کھانے سے پہلے طلبہ کو سامنے یا پیچھے کی قلا بازی کی مشق کروائیں۔ ہاتھوں اور پیروں کی مناسب کیفیت کی طرف توجہ دیں۔ طویل اور بلند اُچھال کے وقت طلبہ کی حفاظت کا مناسب خیال رکھیں۔

## ۳۶۳۔ کھیلوں کی بنیادی مہارتوں



کبڈی (ہٹوٹو)





کراتے

### میری سرگرمی

اخبارات اور رسائل سے کبڈی اور کراتے کے کھیلوں کی تصویریں جمع کرو۔

- ♦ کبڈی اور کراتے کے کھیلوں میں درکار مہارتوں کا تعارف کروائیں مثلاً کبڈی: دم لینا، ہاتھ مارنا، پیر کپڑنا، کمر کپڑنا، پیر مارنا، ہاتھ کپڑنا وغیرہ۔ کراتے: بو (آداب بجالانے کے لیے بھکنا)، پچ (تمہارا نام)، جسمانی حالت، کیکو (لات مارنا)، بلاک (روکنا) وغیرہ۔

## ہینڈ بال



**میری سرگرمی**

ہینڈ بال یا اسی شکل اور حجم کی گیند جو ہاتھ میں پکڑی جاسکے، سے مشق کرو۔

♦ درج بالا کھیلوں کی بنیادی مہارتوں سے متعلق سرگرمی کروائیں۔ طلبہ کو کھیلوں کے اصول سمجھائیں۔ ان کی مہارت کا اندازہ لگا کر اسی کے مطابق مشق کروائیں۔ مثلاً پٹے لینا (گیند اچھالنا)، پٹے لیتے (گیند اچھالنے) ہوئے دوڑنا، گیند جھینانا، گیند پھینانا، گول روکنا وغیرہ۔

## سافت بال



### میری سرگرمی

سافت بال کی بنیادی مہارتوں سے متعلق درست سرگرمی انجام دینے کی کوشش کرو۔

♦ رہ کی گیند کی مدد سے سکھائیں۔ مشق کے دوران بنیادی مہارتوں اور صلاحیتوں کے فروغ پر توجہ دیں۔ مناسب جسمانی حالت اور طلبہ کی حفاظت کی جانب بھی توجہ دیں۔ بیٹنگ، فیلڈنگ، تھرونگ، پچنگ، کچنگ اور میں رنگ وغیرہ۔

مینار سے مراد ایک کے اوپر ایک رکھی ہوئی چیزوں کا لکش ڈھانچا۔ یہ ڈھانچا اشیا یا انسانوں کی مدد سے بنایا جاتا ہے۔ انسانوں کو ایک کے اوپر ایک کھڑا کر کے جو مینار تیار کیا جاتا ہے، اسے 'انسانی مینار' کہا جاتا ہے۔



### میری سرگرمی

کسی بڑے شخص کی رہنمائی میں مینار تیار کرنے کی مشق کرو۔

- ♦ طلبہ کی عمر، صلاحیت اور ان کی آمادگی کا خیال رکھتے ہوئے مینار تیار کروائیں۔ پہلے تصویر یا فوٹو دکھا کر مینار کی تہوں کے بارے میں معلومات دیں۔ موزوں حالت کی وضاحت کر دیں۔ تحفظ کا خصوصی خیال رکھیں۔
- ♦ مینار کا مظاہرہ کسی مخصوص پروگرام کے دوران کروانے کے لیے ضروری مشق کروائیں۔ ممکن ہو تو میوزک کی تال پر مظاہرہ کریں۔ اس سے دلکشی میں اضافہ ہو گا۔



پ.تی. اوشا (دوڑ)



سچن تندولکر (کرکٹ)



کھاشبا جادھو (کشتی)



پ.وی. سندھو (بیڈمنٹن)

### میری سرگرمی

اپنے آس پاس کے کھلاڑیوں کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اسے اپنی کلاس میں بتاؤ۔ ماہانہ رسائل یا اخبارات میں شائع ہونے والی کھلاڑیوں اور کھیل کی تصاویر کا ذخیرہ کرو۔

- ♦ فلم کی مدد سے سکھائیں۔ معروف کھلاڑیوں کے بارے میں معلومات دریافت کریں۔ غیر معروف کھلاڑیوں کے بارے میں معلومات فراہم کریں۔

## ۷ء۔ مختلف کھیلوں کے میدان



کھوکھو



کرکٹ



والی بال




ٹنس

میری سرگردی

مختلف کھیلوں کے میدانوں کا مشاہدہ کرو۔

- ♦ طلبہ پر مختلف کھیلوں کے میدانوں کی انفرادیت واضح کریں۔ بڑی جماعتوں کے طلبہ جب میدان میں کھیل رہے ہوں تو ان طلبہ کو ان کا کھیل دکھانے کے لیے میدان پر لے جائیں۔

میرے پسندیدہ کھیل:



تصویریں / فوٹو:

♦ طلبہ سے ان کے پسندیدہ کھیلوں کے نام لکھنے اور ان کھیلوں میں استعمال ہونے والے ساز و سامان کی تصویریں بنانے کے لیے کہیں۔ یہ بھی پوچھیں کہ انھیں یہ کھیل کیوں پسند ہے۔